

سُورَةُ يَسٍ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَثَمَانُونَ آيَةً وَخَمْسُ رُكُوعَاتٍ

سورہ یس مکی ہے اور اس میں تراسی آیتیں اور پانچ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

يَسٍ ۝۱ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝۲ اِنَّكَ لَمِنَ

یس قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے (اے محمدؐ بے شک تم

الْمُرْسَلِينَ ۝۳ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝۴ ط

پیغمبروں میں سے ہو سیدھے رستے پر

تَنْزِيلٍ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝۵ لِنُنذِرَ قَوْمًا

ایہ خدا نے غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے

مَا أَنْذَرْنَا آبَاءَهُمْ فَهُمْ غٰفِلُونَ ۝۶ لَقَدْ حَقَّ

باپ داد کو متنبہ نہیں کیا تھا، متنبہ کر دو وہ غفلت میں پڑے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر پر

الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝۷

(خدا کی) بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے

إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلًا فَبِهِىِٔ إِلَىٰ

ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں

الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ^۸ وَجَعَلْنَا مِنْ

تک (پھنسنے ہوئے ہیں) سوان کے سر اُٹل رہے ہیں اور ہم نے ان کے

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا

آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی پھر

فَأَعَشَيْنَاهُمُ فَبُصْرًا لَا يَبْصُرُونَ^۹ وَسَوَاءٌ

ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے اور تم ان کو

عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا

نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان

يَوْمِنُونَ^{۱۰} إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ

نہیں لانے کے تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی

وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ ۖ فَبَشِّرْهُ

پیروی کرے اور خدا سے غائبانہ ڈرے سو اس کو مغفرت

بِغُفْرَةٍ وَاجْرُ كَرِيمٍ^{۱۱} إِنَّا نَحْنُ مُحِي

اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو بے شک ہم مردوں کو زندہ

الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ

کرینگے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور (جو) ان کے نشان (بھی) چھپے رہ گئے) ہم ان کو

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ^{۱۲}

قلیند کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن (یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ

اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان

جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ^{۱۳} إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ

کے پاس پیغمبر آئے (یعنی) جب ہم نے ان کی طرف

اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا

دو پیغمبر بھیجے تو انھوں نے ان کو بھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انھوں نے

إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ^{۱۴} قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا

کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آتے ہیں وہ بولے کہ تم (اور کچھ) نہیں مگر

بَشَرٌ مِّثْلَنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ

ہماری طرح کے آدمی (ہو) اور خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ^{۱۵} قَالُوا رَبُّنَا

تم محض بھوٹ بولتے ہو انھوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار

يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ^{۱۶} وَمَا عَلَيْنَا

جاننا کہ ہم تمہاری طرف (پیغام دے کر) بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صاف

اِلَّا اَبْلَغُ الْبَيِّنِ ۙ ﴿۱۷﴾ قَالُوْا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ

صاف پنچا دینا ہے اور بس وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک دیکھتے ہیں

لِيْن لَّمْ تَنْتَهُوْا نَرْجِسْكُمْ وَ لِيَسَّسْكُمْ

اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ

مِّنْ اَعْدَابٍ اٰیْمٍ ۙ ﴿۱۸﴾ قَالُوْا طٰۤاٰ بِرْكُمْ مَّعَكُمْ

دینے والا عذاب پہنچے گا انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ

اٰیْنُ ذِكْرِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ۙ ﴿۱۹﴾

ہے کیا اس لیے تم کو نصیحت کی گئی بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو

وَجَاءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰی

اور شہر کے پیرلے کنا سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا

قَالَ يٰۤاَقْوَمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ۙ ﴿۲۰﴾ اَتَّبِعُوا

کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو ایسوں کے جو

مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۙ ﴿۲۱﴾

تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہیں

وَمَا لِيْ لَا اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاٰلِيْهِ

اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم

تُرْجَعُونَ ﴿۲۲﴾ ۶ اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهَا إِلَهًا

کو لوٹ کر جانا ہے کیا میں ان کو پھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں

إِنْ يُرِدِ اللَّهُ الرِّحْلَةَ مِنْ عِنْدِي

اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے

شَفَاعَةً لَهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ ﴿۲۳﴾ اِنِّي اِذَا

کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا ہی سکیں تب تو میں

لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۲۴﴾ اِنِّي اَمِنْتُ بِرَبِّكُمْ

صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں

فَاسْمِعُونَ ﴿۲۵﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ط قَالَ

سو میری بات سن رکھو حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا بولا

يَلِيَّتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿۲۶﴾ بِمَا عَفَرْتُ

کاش میری قوم کو خبر ہو کہ خدا نے مجھے بخش دیا

رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمَكْرُمِينَ ﴿۲۷﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا

اور عزت والوں میں کیا اور تمہارے اس

عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنْ

کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا

السَّاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿۲۸﴾ اِنْ كَانَتْ

اور نہ ہم اتارنے والے تھے ہی وہ تو صرف

الْاَصِيْحَةَ وَاِحِدَاةً فَاِذَا هُمْ خٰبِدُوْنَ ﴿۲۹﴾

ایک چنگھاڑ تھی (آتشیں) سو وہ (اس سے) ناگماں بکھ کر رہ گئے

يَخْسِرُوْنَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ

بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا

اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۳۰﴾ اَلَمْ يَرَوْا كَمْ

مگر اس سے تمسخر کرتے ہیں کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم

اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ

نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا اب وہ ان کی طرف

لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿۳۱﴾ وَاِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيْعَةٍ

لوٹ کر نہیں آئیں گے اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے

لَدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿۳۲﴾ وَاٰیةٌ لَّهُمْ الْاَرْضُ

جائیں گے اور ایک نشانی ان کے لیے زمین

الْمِيْتَةُ اَحْيٰیْنَهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا

مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا

وقف عفرات

۲- یس

فِیْنَهٗ یَاْكُلُوْنَ ﴿۳۳﴾ وَجَعَلْنَا فِیْهَا جَنَّتٍ مِّنْ

پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں اور اس میں کھجوروں اور انگوروں

مَخِیْلِ ۙ وَّاَعْنَابٍ ۙ وَفَجْرًا فِیْهَا مِّنَ الْعِیُوْنِ ﴿۳۴﴾

کے باغ پیدا کئے اور اس میں پھستے جاری کر دیئے

لِیَاْكُلُوْا مِّنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَلَّمْتَهُ اٰیٰتِیْهِمْ ط

تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا

اَقْلًا یَشْكُرُوْنَ ﴿۳۵﴾ سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ

پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے وہ خدا پاک ہے جس نے

الْاَرْضَ وَاَجْرَ كُلِّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنَ

زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن

اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۳۶﴾ وَاٰیةٌ لَّهُمْ

چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے اور ایک نشانی ان کے

الْبَیْلِ ۙ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلَمُوْنَ ﴿۳۷﴾

لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا

وَالشَّمْسُ تَجْرٰی لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِیْرُ

اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے یہ (خدا کے) غالب اور دانا

الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ^ط (۳۸) وَالْقَدَرُ قَدْرُهُ مَنَازِلَ

کا (مقرر کیا ہوا) اندازہ ہے اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں

حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (۳۹)

یہاں تک کہ (گھٹتے گھٹتے) کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ

نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے

وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ

اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے سب اپنے اپنے دائرے میں تیر

يَسْبَحُونَ (۴۰) وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ

رہے ہیں اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو

فِي الْفَلَكَ الشُّحُونَ (۴۱) وَخَلَقْنَا لَهُمْ

بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسی ہی

مِّنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (۴۲) وَإِنْ نَشَأْ

اور چہیزیں پیدا کریں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں اور اگر ہم چاہیں

نُغْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ

تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریادرس ہو اور نہ ان کو

يُنْقَدُونَ ﴿٤٢﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ

رہائی ملے۔ مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے

حِينَ ﴿٤٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ

فائدے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو

أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾

تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ

اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی کوئی نشانی نہیں آتی

إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا قِيلَ

مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا

لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا سَرَقْتُمْ اللَّهُ قَالَ

ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر

الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ

مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں

مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطَعْتُمْ إِنَّمَا أَنْتُمْ إِلَّا

جن کو اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو صریح

فِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ﴿۴۷﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا

غلطی میں ہو اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے

الْوَعْدِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۴۸﴾ مَا يَنْظُرُونَ

ہو تو یہ وعدہ کب (پورا) ہوگا؟ یہ تو ایک چنگھاڑ

إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ

کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم بھگڑ رہے ہوں گے

يَخِصِّصُونَ ﴿۴۹﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً

آپکڑے گی پھر نہ تو وصیت کر سکیں گے

وَأَلَىٰ آلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿۵۰﴾ وَنُفِخَ فِي

اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جاسکیں گے اور (جس وقت) صور پھونکا

الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ

جاتے گا یہ قبروں سے (نکل کر) اپنے پروردگار کی طرف دوڑ

رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿۵۱﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا

پڑیں گے کہیں گے لے ہے ہمیں ہماری خواہگا ہوں سے کس

مِنْ مَرْقَدِنَا ۚ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ

نے (جنگا) اٹھایا یہ وہی تو ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا

۱۶

وقف مازن
وقف غفران
وقف لادم

وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿۵۲﴾ إِنَّ كَانَتْ إِلَّا

اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا صرف ایک زور

صَيِّحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِجَمِيعٍ لَدَيْنَا

کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو

مُحْضَرُونَ ﴿۵۳﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا

آ حاضر ہوں گے اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا

وَلَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۴﴾ إِنَّ

اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے اہل

أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكُونَ ﴿۵۵﴾

جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ

وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے

مُتَّكِعُونَ ﴿۵۶﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ

بیٹھے ہوں گے وہاں ان کے لیے میوے اور جو چاہیں گے

مَّا يَدَّعُونَ ﴿۵۷﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَبِّ

(موجود ہوگا) پروردگار مہربان کی طرف سے سلام

رَّحِيمٍ ۵۸ وَامْتَّازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمَجْرِبُونَ ۵۹

کہا جائے گا اور گنہگارو! آج الگ ہو جاؤ

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَدْنِي أَدَمَ أَنْ لَا

اے آدم کی اولاد ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ

تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۶۰

شیطان کو نہ پوجنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے

وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۶۱

اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ

اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا

تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ۶۲ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي

تم سمجھتے نہیں تھے یہی وہ جہنم ہے جس کی

كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۶۳ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ

تمہیں خبر دی جاتی تھی سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس

تَكْفُرُونَ ۶۴ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَ

میں داخل ہو جاؤ آج ہم ان کے مونہوں پر مہر لگا دیں گے اور

تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا

جو کچھ یہ کرتے ہیں تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں

كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۶۵﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ

(اس کی) گواہی دیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا

أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى

(کر اندھا کر) دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں

يُبْصِرُونَ ﴿۶۶﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ

دیکھ سکیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں

مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا

بدل دیں پھر وہاں سے نہ آگے جاسکیں اور

لَا يَرْجِعُونَ ﴿۶۷﴾ وَمَنْ نَعْبُرُهُ نَكَبْنَاهُ فِي

نہ (بیچھے) لوٹ سکیں اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں

الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿۶۸﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ

اندھا کر دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں اور ہم نے ان (بیٹمبر) کو شعر گوئی نہیں

الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ

سکھائی اور نہ وہ ان کو شایاں ہے یہ تو محض نصیحت اور صاف

وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿۶۹﴾ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا

صاف قرآن (پراز حکمت) ہے تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا راستہ دکھائے

وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿۷۰﴾ اَوْلَمُ

اور کافروں پر بات پوری ہو جائے کیا انہوں نے

يَرَوْا اَنْتَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا

نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے

اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ﴿۷۱﴾ وَذَلَّلْنٰهَا

ان کے لیے چار پلے پیدا کر دیتے اور یہ ان کے مالک ہیں اور ان کو ان کے قابو

لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ ﴿۷۲﴾

میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں

وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿۷۳﴾

اور ان میں ان کے لیے (اور) فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو یہ شکر کیوں نہیں کرتے

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِلٰهَةً لَّعَلَّهُمْ

اور انہوں نے خدا کے سوا (اور) معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو

يَنْصُرُوْنَ ﴿۷۴﴾ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ نَصْرَهُمْ وَّ

مدد پہنچے (مگر) وہ ان کی مدد کی (ہرگز) طاقت نہیں رکھتے اور

هَمْ لَمْ جُنْدٌ مَّحْضَرُونَ ﴿۴۵﴾ فَلَا يَحْزُنُكَ

وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے تو ان کی باتیں تمہیں

قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا

غمناک نہ کر دیں یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں (سب)

يُعْلِنُونَ ﴿۴۶﴾ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ

معلوم ہے کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے

مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿۴۷﴾

سے پیدا کیا پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ط قَالَ

اور ہانے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا کہ

مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿۴۸﴾ قُلْ

(جب) ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا کہہ دو کہ

يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَ

ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور

هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿۴۹﴾ الَّذِي جَعَلَ

وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے (وہی) تو ہے جس نے تمہارے لیے

لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا

بہتر درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس

أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ ﴿۸۰﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي

(کی ٹینیوں کو گر کر ان) سے آگ نکالتے ہو بھلا جس نے

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَدْرِ عَلَى

آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو

أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ

(پھر) ویسے ہی پیدا کر دے کیوں نہیں اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا

الْعَلِيمُ ﴿۸۱﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ

اور علم والا ہے اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو

يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۸۲﴾ فَسُبْحٰنَ

اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے وہ ذات پاک

الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ

ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو

تُرْجَعُونَ ﴿۸۳﴾

لوٹ کر جانا ہے